

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

نماز ختم کر چکنے کے بعد داییں ہاتھ سے اپنی پیشانی
 کو چھوؤ اور کہو

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَنُ

ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمن

الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ أذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ

ہے ہم سے اے اللہ! دور کر دے مجھ سے فکر

وَالْحُزْنَ

اور غم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکبر! اس کا کوئی شریک نہیں

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

اشی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت

شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا

دیکھتا ہے اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کا

أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا نَعْتَى وَلَا

جو تو عطا کرے اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کا جو تو روک لے اور نہیں

يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

کوئی کام دے سکتی کسی عزت داسے کو جس سے سامنے اس کی عزت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکبر! اس کا

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

کوئی شریک نہیں اس کا راج ہے اور اسی

۱۰
 حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو ختم کر چکے تو دایے ہاتھ سے اپنی پیشانی کو چھرتے اور فرماتے: اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ... الخ
 عمل الیوم واللیلۃ
 دن کی ہر صلوٰۃ ۳۰
 شمار ۱۱۲

۱۰
 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پڑھتے تو فرماتے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مَعْطَى لِمَا نَعْتَى وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
 لالہ الا اللہ
 وحده لا شریک
 له له الملک
 وهو علی کل
 شیء قدیور
 ولا مانع
 لا لمانعہ
 لا یفعل
 ذالجد منک
 الجدد
 شمار ۱۱۲

۱۱
 حضرت منیر بن شعبہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز ختم ہو کر بیٹھتے تو فرماتے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مَعْطَى لِمَا نَعْتَى وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
 لالہ الا اللہ
 وحده لا شریک
 له له الملک
 وهو علی کل
 شیء قدیور
 ولا مانع
 لا لمانعہ
 لا یفعل
 ذالجد منک
 الجدد
 شمار ۱۱۲

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

نماز ختم کر چکنے کے بعد داییں ہاتھ سے اپنی پیشانی
 کو چھوؤ اور کہو

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَنُ

ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمن

الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ أذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ

ہے بھگ ہے اے اللہ! دور کر دے مجھ سے فکر

وَالْحُزْنَ

اور غم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکبر! اس کا کوئی شریک نہیں

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

اشی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت

شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا

دیکھتا ہے اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کا

أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا نَعْتُ وَلَا

جو تو عطا کرے اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کا جو تو روک لے اور نہیں

يَنْقَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

کوئی کام دے سکتی ہے عزت دے کر جس سے سامنے اس کی عزت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکبر! اس کا

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

کوئی شریک نہیں اسی کا راج ہے اور اسی

۱۰
 حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو ختم کر چکے تو دایے ہاتھ سے اپنی پیشانی کو چھرتے اور فرماتے: اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ... الخ
 عمل الیوم واللیلۃ
 دن کی ہر صلوٰۃ ۳۰
 شمار ۱۱۲

۱۰
 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو ختم فرماتے تو دایے ہاتھ سے اپنی پیشانی کو چھرتے اور فرماتے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا نَعْتُ وَلَا يَنْقَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
 لالہ الا اللہ
 دیکھتا ہے
 وہ ہر چیز پر قدرت
 اس کا کوئی شریک نہیں
 اسی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت
 دیکھتا ہے
 اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کا
 جو تو عطا کرے اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کا جو تو روک لے اور نہیں
 کوئی کام دے سکتی ہے عزت دے کر جس سے سامنے اس کی عزت
 کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکبر! اس کا
 کوئی شریک نہیں اسی کا راج ہے اور اسی
 شمار ۱۱۲

۱۱
 حضرت زینب بنت جحش سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو ختم فرماتے تو دایے ہاتھ سے اپنی پیشانی کو چھرتے اور فرماتے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا نَعْتُ وَلَا يَنْقَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
 لالہ الا اللہ
 دیکھتا ہے
 وہ ہر چیز پر قدرت
 اس کا کوئی شریک نہیں
 اسی کا راج ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت
 دیکھتا ہے
 اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کا
 جو تو عطا کرے اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کا جو تو روک لے اور نہیں
 کوئی کام دے سکتی ہے عزت دے کر جس سے سامنے اس کی عزت
 کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکبر! اس کا
 کوئی شریک نہیں اسی کا راج ہے اور اسی
 شمار ۱۱۲

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِزَّتِهِ
 بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا أَيُّهَا اللَّهُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

سورة الاخلاص ۱۰۰ بار

أَصْبَحْتُ يَا رَبِّ أَشْهَدُكَ

میں نے صبح کی اسے رب تو گواہ ہے

وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَكَ وَأَنْبِيََاءَكَ

اور تیرے ملائکہ گواہ ہیں اور تیرے

وَرُسُلَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ

انبیاء اور رسول طیبم اسلام گواہ ہیں اور میری تمام مخلوقات

عَلَى شَهَادَتِي عَلَى نَفْسِي إِيْنِي

میری گواہی پر اور میری شہادت پر ہے تاکہ

أَشْهَدُ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا

میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں

أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ

تو واحد ہے تیرا کوئی شریک نہیں

لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ

اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے بندے

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ

اور تیرے رسول ہیں اور میں ایمان لاتا ہوں تجھ پر

وَأَتُوكَلُّ عَلَيْكَ

اور بھروسہ کرتا ہوں تجھ پر

۳ بار

حضرت عائشہ صدیقہ
 سے مروی ہے کہ
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم صبح کے وقت یہ
 پڑھا کرتے تھے۔
 اشہدک یا رب
 میں ایوم و اللیل
 صفر ۱۲ شمارہ ۵۷

حضرت اسماعیل و خالد
 باپ سے روایت کرتے ہیں
 کہ میں نے حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
 سورے سننے اور پڑھنے
 کی وجہ سے ناز طبعی اور
 صبح کی ناز طبعی اور
 سو بار سورہ اخلاص
 (قل هو الله... الخ)
 اللہ الصمد سے پہلے پڑھے
 کلام کرنے سے پہلے پڑھے
 تو ہر بار قل هو الله
 احد کلمے سے ایک سال
 کے لئے بخیر رہنے جانتے
 ہیں۔
 عمل ایوم و اللیل
 ابن سنی رحمہ
 صفر ۱۲ شمارہ ۵۷



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْحَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدْوِكَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے کلمہ پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشا دے؟ میں نے کہا ہاں، اگر وہ کلمہ پڑھے: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْحَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ بِعَدْوِكَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
 بار بار

اللَّهُمَّ ارِنِي تَدُّ وَهَبْتِ
 اے اللہ! میں نے بخش دیا اپنے

نَفْسِي وَعَرْضِي لَكَ فَلَا يَنْتَمِ
 نفس کو اور عزت کو مجھے میں نہ گالی دے

مَنْ شَتَمَهُ وَلَا يَظْلِمُ مَنْ
 اس کو جو اسے گالی دے اور نہ ظلم کرے (اس پر) جو

ظَلَمَهُ وَلَا يَضْرِبُ مَنْ
 اس پر ظلم کرے اور نہ مارے جو اس کو

ضَرَبَهُ
 مارے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا

حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا
 تعریف بہت پاکیزہ بابرکت

فِيهِ
 ۳ بار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ
 نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ملک اسی کا ہے

وَلَهُ الْحَمْدُ لَا شَرِيكَ لَكَ
 اور سب تعریف اسی کے لئے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں

بار بار

بار بار

بار بار

بار بار

بار بار

حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے کلمہ پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشا دے؟ میں نے کہا ہاں، اگر وہ کلمہ پڑھے: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْحَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ بِعَدْوِكَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے کلمہ پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشا دے؟ میں نے کہا ہاں، اگر وہ کلمہ پڑھے: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْحَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ بِعَدْوِكَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ



حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے کلمہ پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشا دے؟ میں نے کہا ہاں، اگر وہ کلمہ پڑھے: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْحَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ بِعَدْوِكَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ يَا لَيْلَى اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ النَّبِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَ أَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

اور عمر کی ملک نے اللہ واحد قہار کے لئے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي (فجر) ذَهَبَ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو رات کو لے گیا

بِاللَّيْلِ وَجَاءَ بِالنَّهَارِ (عصر) ذَهَبَ

اور لے آیا دن کو دن کو

بِالنَّهَارِ وَجَاءَ بِاللَّيْلِ وَنَحْنُ

لے گیا اور رات کو لے آیا اور ہم

فِي عَافِيَةٍ اللَّهُمَّ هَذَا خَلْقٌ

عافیت میں ہیں اے اللہ یہ نئی پیدائش

جَدِيدٌ قَدْ جَاءَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهِ

اوپن ہے جس جو بڑے اعمال میں نے

مِنْ سَيِّئَةٍ فَتَجَاوَزَ عَنْهَا وَمَا

اس میں نے کئے ہیں تو ان سے درگزر فرما اور جو

عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ حَسَنَةٍ فَتَقَبَّلَهَا

نیک اعمال میں نے اس میں کئے ہیں ان کو قبول فرما

وَ أضعِفْهَا أضعَافًا مُضَاعَفَةً اللَّهُمَّ

اور (ان نیک اعمال کو) کئی گن بڑھا دے اے اللہ

إِنَّكَ بِجَمِيعِ حَاجَتِي عَالِمٌ وَإِنَّكَ

ہے شک تو میری تمام حاجات کو جانتا ہے۔ اور ہے شک تو

عَلَى أَنْجَاحِهَا قَادِرٌ اللَّهُمَّ

ان تمام کے پورا کرنے پر قادر ہے اے اللہ

أَنْجِحْ (فجر) الْيَوْمَ (عصر) اللَّيْلَةَ كُلَّ

پوری فرما میرے دن کی میری رات کی تمام حاجات کو

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بَعْدَهُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 وَلَا تُؤَخِّرْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

حَاجَةٌ لِي وَلَا تَزِدْنِي فِي دُنْيَايَ وَلَا

اور نہ زیادتی کہ میری دنیا میں اور نہ

تَنْقُصْنِي فِي آخِرَتِي

کہ کہ میری آخرت میں

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اے اللہ تو میرا رب ہے نہیں کوئی سبود مگر تو ہی

عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

تو پر میرا بھروسہ ہے اور تو پر دردگار ہے مومن کریم کا

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا

اللہ جو چاہے (وہی) ہوتا ہے اور جو کچھ نہ چاہے نہیں ہو سکتا نہیں

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

طاقت اور نہیں قوت مگر اللہ بلند عظمت والے کے دینے سے

أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ

جانتا ہوں ہے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت در ہے اور ہے شک

اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُمَّ

اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے اے اللہ میں

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ

پیر کا پناہ طلب کرتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر

كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ الْخَدُّ بِأَيْمَانِيهَا إِنَّ رَبِّي

جاندار کے شر سے کہ تو نے اس کی پیشانی کو پکڑ رکھا ہے بیشک

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ط

میرا رب مراطہ مستقیم پر ہے

ط حضرت ابوالدرداء رضی اللہ
 عنہ سے مروی ہے کہ کلمات
 میں نے جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے
 ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص
 ان کو اول دن میں پڑھے
 اسے شام تک کوئی مصیبت
 نہیں پہنچے گی۔ اور جو شخص
 آخر دن میں پڑھے۔ اسے
 رات کی صبح تک کوئی مصیبت
 نہیں پہنچے گی۔
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۰۵
 شمارہ ۴۹



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 يَوْمَئِذٍ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْأَمِّيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

سورة الناس ۷ بار

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا

پاک ہے اللہ اور تعریف اللہ ہی کے ہے اور تمہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ط ۷ بار

معبود سوائے اللہ کے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ۷ بار

جو نبی امی ہیں مادر آپ کی اولاد پر اور سلامتی نازل فرما

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط

اے اللہ بخش دے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَوَالِدِي، ۷ بار

اے اللہ بخش دے مجھے اور میرے والدین کو

اللَّهُمَّ افْعَلْ بِنَا وَبِهِمْ عَاجِلًا وَ

اے اللہ بڑاؤ کر ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ اب اور

أَجَلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

تو (میریں) دین اور دنیا اور آخرت

مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا

میں وہ جس کا تو اہل ہے۔ اور نہ بڑاؤ کر ہمارے ساتھ اہل

مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ

ہمارے آقا جس کے ہم اہل ہیں بیشک تو

غَفُورٌ رَحِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ رُؤُوفٌ

بخشنے والا برد بار۔ بہت سخاوت کرنے والا بہت عزت والا بہت

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ

تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ

مَنْ تَشَاءُ وَتَذَلُّ مَنْ تَشَاءُ بِسَيْدِكَ

الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا

سُورَةُ الْبَقَرَةِ آخِرُ آيَاتِ

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ

إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

كُلٌّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَوَلَّيْتَهُ وَ

كُتِبَ وَرُسُلُهُ لَا تَفْرَقُ

بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا

سورہ البقرہ کی آیتوں میں سے ہے۔
 اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی انصاف کا حاکم ہے۔
 اس کے سوا کوئی
 معبود نہیں (۱۵) زبردست حکمت والا ہے۔

تو کر لے اللہ بادشاہی کے مالک ہے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے
 اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے۔ اور جسے تو
 چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سب عزتی پرہ اتم

میں ہے۔ بیگ و ہرجیز پر قادر ہے،

یہ آیتیں صحیحہ ہیں اور
 ان دونوں کو شکر ہے کہ ان کے
 معجزات دیکھنے والے ہوں اور ان کے
 معجزات میں کھانا پکایا جائے اور
 سب صحیح ہے۔

ان دونوں کو شکر ہے کہ ان کے
 معجزات دیکھنے والے ہوں اور ان کے
 معجزات میں کھانا پکایا جائے اور
 سب صحیح ہے۔

یہ آیتیں صحیحہ ہیں اور
 ان دونوں کو شکر ہے کہ ان کے
 معجزات دیکھنے والے ہوں اور ان کے
 معجزات میں کھانا پکایا جائے اور
 سب صحیح ہے۔

حضرت علیؑ کی آیتوں میں سے ہے۔
 اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی انصاف کا حاکم ہے۔
 اس کے سوا کوئی
 معبود نہیں (۱۵) زبردست حکمت والا ہے۔

وَقَالُوا يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

یہ آیتیں صحیحہ ہیں اور
 ان دونوں کو شکر ہے کہ ان کے
 معجزات دیکھنے والے ہوں اور ان کے
 معجزات میں کھانا پکایا جائے اور
 سب صحیح ہے۔



یہ آیتیں صحیحہ ہیں اور ان دونوں کو شکر ہے کہ ان کے معجزات دیکھنے والے ہوں اور ان کے معجزات میں کھانا پکایا جائے اور سب صحیح ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

سَمِعْنَا وَ اطْعْنَا عَفْرَانِكَ رَبَّنَا

ہم نے سنا اور قبول کیا بڑی بخشش چاہیے اسے ہمارے

وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○ لَا يَكْفُرُ

رب اور تجھے تک رجوع ہے اللہ تکلیف نہیں

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسُعَهَا لَهَا مَا

دیتا کسی شخص کو مگر جو اس کی تمنا نہیں ہے اسی کو دیتا ہے

كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

جو کسب یا اور اسی پر پڑتا جو کیا

رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ لَسِينَا

اے ہمارے رب نہ پرہیزم کو اگر ہم جو رہیں

أَوْ أَخْطَاْنَا رَّبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ

یا جو کہیں اے رب ہمارے اور نہ رکھ

عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ

ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا تو نے

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا

انگلوں پر اے ہمارے رب!

وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

اور نہ اٹھو ہم سے جس کی طاقت نہیں ہم کو

بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُرْ لَنَا

اور درگزر کر ہم سے اور بخش اور بخش

وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا

اور رحم کر ہم پر تو ہمارا صاحب ہے مدد کر ہماری

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○ اَبَار

قوم کافر پر ابار

۱۵۴. اذکرنتہ صلو
 زبایا جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کہ اللہ تبارک و
 تعالیٰ اور جن ذوالجلال
 والا کہ ہم نے ذوالجلال
 کو دو آیتوں پر شکر
 ہے یہ دونوں آیتیں
 جیسے اس قرآن سے عطا
 کی گئی ہیں جو عربوں کے
 آیتوں کو اور صحابہ
 ان کو اپنی لافروں کو
 اس کے لیے کہ آیتیں
 قرآن میں اللہ تبارک
 والاکرم سے عزت کا راوی
 حضرت جبریل نقیض
 دائمی رکھ آئے
 رسلاً من اللہ
 علی ادل صفحہ ۳۹۵
 شمارہ ۲۰۵۵

گزشتہ سے پوسٹ
 میں سے کوئی بھی سبب نہ
 کے بعد میں نہیں پڑھے گا
 گزرا اس کا ٹھکانا میں
 منت میں بناؤ گا۔
 خواہ کچھ ہی اس کے عمل
 یعنی خواہ اس کے اور
 کیے جی ہوں، اس کو
 میں فوراً اس میں
 عقوبت اللہ میں
 آنا کر دوں گا۔ اور میں
 اپنی جیسی موتی آنکھ سے ہر روز
 سترتہ رہے رہوں گا۔ اور
 سے اور کبھی اس کی سترتہ
 ہر روز اس کی سترتہ
 عاجزی پوری کروں گا۔
 جن کی اونٹنی حاجت
 بخشش ہے اور اس
 کو پناہ دوں گا۔ اور
 ہر دشمن سے، اور
 اس کی مدد کروں گا
 کزرا لعل جلد اول
 صفحہ ۵ - ۳۹۳
 شمارہ ۵۰۴۵



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

الْتَّعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

برتر کوئی مجبور نہیں مگر وہی اسے زندہ جاوید ہے ہمیشہ قائم

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَلَا حَوْلَ وَلَا حَوْلَ

رہنے والے - لئے بزرگی اور عزت والے اور گناہ سے بچنے

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْبَارِ

اور بیل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مگر اللہ کی مدد سے جہت بند غفلت والا ہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

گواہی دیتا ہوں میں کہ کوئی مجبور نہیں مگر اللہ اکسیرا ،

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ

اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ

عِيسَى عِبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ

عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی غلام بندی کے

وَكَلِمَةُ الْقَهَّارِ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٍ مِنْهُ

بیٹے ہیں اور اس کا لفظ ہے جو اس نے ڈالا مریم کی طرف اور روح میں اس کی طرف سے

وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ ط ا بار

اور یہ کہ جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

گواہی دیتا ہوں میں کہ کوئی مجبور نہیں مگر اللہ اکسیرا - کوئی

شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

شریک نہیں ہے اس کا اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور

رَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عِبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

اس کے رسول ہیں۔ اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے

وَأَنَّ أُمَّتَهُ وَأَنَّ عِيسَى عِبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

رسول اور اس کی غلام بندی کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے گروہوں جو اس نے ڈالا حضرت

وہی ہے جو اس کے رسول ہیں اور اس کی غلام بندی کے
 عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی غلام بندی کے
 اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے
 رسول اور اس کی غلام بندی کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے گروہوں جو اس نے ڈالا حضرت

وہی ہے جو اس کے رسول ہیں اور اس کی غلام بندی کے
 عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی غلام بندی کے
 اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے
 رسول اور اس کی غلام بندی کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے گروہوں جو اس نے ڈالا حضرت



رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 الْمُؤْمِنِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 الْمُؤْمِنِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَبِينَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَالِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَرَوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَ

ک طرف اور روح ہیں اس کی طرف سے اور یہ کہ جنت ایک امر واقعی ہے اور

النَّارُ حَقٌّ ط

دوزخ بھی برحق ہے۔

لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جَدَّةً

کوئی معبود نہیں مگر اللہ اس کے غیر دیا اس نے اپنے

وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ

شکر کو اور مدد کی اس نے اپنے بندے کی اور مغلوب بنا دیا بہت سی جماعتوں کو

وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ط

اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد (بہ نام اللہ کا)

بعد نماز

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي

پاک ہے اللہ اتنی دفعہ جتنی تعداد ہے اسکی آسمانی مخلوق کی

السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ

اور پاک ہے اللہ اتنی مرتبہ جتنی تعداد ہے

فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا

اسکی ارضی مخلوق کی اور پاک ہے اللہ اتنی دفعہ جتنی تعداد ہے

بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ

ان کے درمیان مخلوق کی اور پاک ہے اللہ ان چیزوں کی تعداد کی جتنی ہیں کہ

خَالِقٌ ط ۳ بار

دہ پیداکرنے والا ہے

اللہ سبوح
 خلق فی عدد ما
 وسبحان الله
 عدد ما خلق في
 الارض وسبحان
 الله عدد ما بين
 ذلك وسبحان
 الله عدد ما هو
 خالق

اور اسی طرح دران
 چاروں مذکورہ عبارت
 کے ساتھ سبحان
 الله کی جگہ اللہ اکبر
 اور پھر الحمد لله اور پھر
 لا اله الا الله اور پھر
 لا اله الا الله اور پھر
 سبحان الله ولا شئ
 بين ذلك وسبحان
 الله عدد ما بين ذلك
 وسبحان الله عدد ما
 هو الخالق

جانب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا کرتے تھے :-
 لا اله الا الله
 وحده اعز جده
 ونصر عبده
 وغلب الاحزاب
 وحده فلا شئ
 بعدده عبادہ بن
 صامت رضی اللہ عنہ
 بخاری و مسلم و
 ترمذی رحمہم
 سبحان
 ص ۵۰۰
 علی مخلوق اس میں اللہ
 علیہ وسلم نے ایک صورت
 جس کے کسی آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 کہتے اور اس کے
 سامنے پہلی لکھ کر ان
 تفسیر میں سے وہ صحیح
 فرمایا کیا
 میں ہے وہ چیز بتا دوں
 جو تیرے لیے اس سے
 اور تیرے پھر فرمایا وہ
 آسان ہے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ

تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اسکی آسمانی مخلوق کی تعداد کے مطابق اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَ

تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اس کی ارضی مخلوق کی تعداد کے مطابق اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَ

تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ان کے مابین مخلوق کی تعداد کے برابر اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ط ۳ بار

تعریف اللہ ہی کیلئے ہے اسکی مرتبہ جتنی تعداد ہے ان چیزوں کی جن کو وہ پیدا کرتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ

کوئی معبود نہیں مگر اللہ اپنی آسمانی مخلوق کی تعداد کے مطابق

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ

اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ اس کی ارضی مخلوق کی تعداد کے برابر

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَ

اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ ان کی درمیان مخلوق کی تعداد کے برابر اور

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ط ۳ بار

کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جن کو وہ پیدا کرتا ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ

اللہ سب سے بڑا ہے اس کی آسمانی مخلوق کی تعداد کے برابر

وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ

اور اللہ سب سے بڑا ہے اس کی ارضی مخلوق کی تعداد کے برابر

وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَ

اور اللہ سب سے بڑا ہے ان کے درمیان کی مخلوق کی تعداد کے مطابق۔ اور

اللَّهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ط ۳ بار

اللہ سب سے بڑا ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جن کو وہ پیدا کرنے والا ہے۔

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

زبان حضرت شیخ عبدالرزاق
 نے اور تذکرہ کیا گیا ہے بعض
 اربیلے نے لایا ہے کہ بعض
 اللہ صلی علیہ وسلم کی بعض
 چیزوں کو کہہ کر درود
 بار بار پڑھ کر سیدنا محمد
 پر بار بار درود پڑھ کر سیدنا
 پیا پیلا ہے بعض پتھروں پر
 بظاہر قدرت "ناسی
 جو کوئی اس درود شریف
 کو پڑھے وہ تیرے
 پاس ہو گا اور تیرے
 دل میں جو بات ہو وہ
 سب کچھ ہوتی ہے اور
 تیرے دل میں جو بات
 ہو وہ سب کچھ ہوتی ہے
 ۱۰۰ - ۱۰۱

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ

گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے اسکی

فِي السَّمَاءِ ط وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

آسمانی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت

عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ ط وَلَا حَوْلَ وَلَا

نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے اسکی ارضی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ اور گناہ سے بچنے اور نیکی

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ

کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے ان کے درمیان مخلوق کی تعداد کے برابر۔

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَدَدَ مَا

اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے ان چیزوں کی تعداد

هُوَ خَالِقُ ط ۳ بار

کے برابر جس کو وہ پیدا کرنے والا ہے،

صلوات شریف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحُرِّ

اسے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سمندر میں

أَنْوَارِكُ وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكُ وَ

تیرے انوار کے اور کان میں تیرے اسرار کے اور

لِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوسِ مَمْلَكَتِكَ

زبان میں تیری دلیل و حجّت کے اور دو لہا میں تیری بادشاہی کے

وَإِمَامِ حَضْرَتِكَ وَطَوَارِزِ مُلْكِكَ

اور امام میں تیری جناب کے زینت ہیں تیرے ملک کے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْيَقِينُ وَالْقِيَامُ وَالْوَيْلُ إِلَيْهِ

وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ

اور خزانے میں تیری رحمت کے اور راہ میں تیرے دین کے

الْمُتَلَكِّذِ بِتَوْجِيدِكَ لِلسَّانِ عَيْنِ

اور لذت پانے والے تیری توجید سے یعنی ہیں کائنات ہستی

الْوُجُودِ وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ

کی آئموں کے اور سبب ہیں ہر موجود کا

عَيْنِ أَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ

اصل ہیں تیری بزرگ مخلوق کے پیش رو ہیں تیری تجلیات

ضِيَاءِكَ صَلَاةً تَدْوِمُ بَدْوَامِكَ

کے ناز سے - ایسا درود جو تیری ہمیشگی کے ساتھ دائم رہے

وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ

اور تیری بقا کے ساتھ دائم رہے - اور جس کی انتہا نہ ہو سوائے تیرے

عَلَيْكَ صَلَاةً تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ

میرے اور تیری رحمت جو بچھے پسند ہو اور جو ان کو پسند ہو

وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط ۱ بار

اور جس سے تو ہم سے راضی ہو لے پانے والے تمام جہانوں کے -

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ

لے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مرتے

مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدْوَامٍ

جتنی تعداد ہے ان چیزوں کی جو تیرے علم میں ہیں - ایسی رحمت جو ہمیشہ ہمیشہ جو

مُلْكِ اللَّهِ ط ۱۱ بار

جنگل کو تیری بادشاہی موجود ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا

اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے آقا

فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 تو اس کے بعد اس درود کو پڑھنا
 ہر روز پڑھنا اور درود کے ساتھ
 یہ دعا پڑھنا کہ
 میں تیرے درود کو پڑھتا ہوں

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالتَّوْبُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ (نجر) بِكَ أَصْبَحْنَا وَ

اسے اللہ (نجر) صبح کی ہم نے اور

بِكَ أَمْسَيْنَا (عمر) بِكَ أَمْسَيْنَا

شام کی ہم نے تیرے ساتھ (عمر) شام کی ہم نے اور

وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ حَيَاتُنَا

صبح کی ہم نے تیرے ساتھ اور تیرے ساتھ ہماری زندگی

وَمَوْتُنَا وَ (نجر) إِلَيْكَ النُّشُورُ

ہے اور ہماری موت ہے اور (نجر) تیری طرف ہی زندہ ہو کر جانا ہے

(عمر) إِلَيْكَ الْمَصِيرُ أَعُوذُ

(عمر) تیری طرف ہی لوٹنا ہے میں پناہ چاہتا

بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ

ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ

مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ

سام اور ہامہ (یعنی حشرات الارض)

وَأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

کے مترے اور پناہ چاہتا ہوں اللہ کے کامل کلمات

التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ عِقَابِهِ

کے ساتھ اس کے عذاب کے مترے اور

وَشَرِّ عِبَادِهِ

اس کے بندوں کے مترے

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یہ صبح پڑھا کرتے تھے یہ اللہ کے اصبحنا ویدنا امسینا و موتنا و الیہ النشور و الیہ المصیر اور شام کے وقت اسی کی مثل پڑھتے

۴۰۵ سوال کے اس کے الیکٹ المصیر کا اس میں اضافہ فرماتے۔ عمل الیوم واللسبیلہ ابن سنیام صفحہ ۱۲ شمارہ ۵۰

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ السَّالِمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي الْقِيَوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَهُ اللَّهُمَّ (نَجْر) أَصْبَحْتُ (عَمْر)

اسے اللہ (نجر) میں نے صبح کی (عمر)

أَمْسَيْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَ

میں نے شام کی تجھ سے نعمت میں اور

عَافِيَةٍ وَ سِتْرٍ فَأَتَمَّ عَلَيَّ

عافیت میں اور پردہ پوشی میں پس پوری کر تجھ

نِعْمَتِكَ وَ عَافِيَتِكَ وَ سِتْرِكَ

پر اپنی نعمت اور اپنی عافیت اور اپنی پردہ پوشی

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

دنیا میں اور آخرت میں

اللَّهُمَّ إِنِّي (نَجْر) أَصْبَحْتُ (عَمْر)

اسے اللہ میں نے صبح کی

أَمْسَيْتُ أَشْهَدُ أَنَّهُمَا مَا (نَجْر)

میں نے شام کی اس حال میں کہ گواہی دیتا ہوں کہ جو

أَصْبَحْتُ (عَمْر) أَمْسَيْتُ بِنَا مِنْ

عافیت اور نعمت جس صبح کو نازل ہوئی یا شام کو نازل ہو پس

عَافِيَةٍ وَ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَ حَدِّكَ لَا

آپ ہی کی طرف سے ہے آپ کو کوئی شریک نہیں

شَرِيكَ لَكَ فَ لَكَ الْحَمْدُ

سب شریکین آپ ہی کے لئے ہیں

حضرت بکر بن الانصاری رضی اللہ عنہما
 فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کو اس دعا کو پڑھے اور شام کو پڑھے اس کی تمام گنہگاریاں اور گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔
 (مشکوٰۃ، ص ۱۰۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو اس دعا کو پڑھے اور شام کو پڑھے اس کی تمام گنہگاریاں اور گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔
 (مشکوٰۃ، ص ۱۰۱)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

سید الاستغفار

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ

اے اللہ تو میرا
تو میرا
پروردگار ہے میرے سوا کوئی

إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ

معبود نہیں
تو نے مجھ پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں

وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ

اور میں تیرے
عہد و پیمانہ پر ہوں

مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ

جو کچھ
مجھ میں سے طاقت ہے

مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبْغَاءُ

اس کے شر سے
جو کچھ میں نے کیا

لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ

ان نعمتوں کا
مجھے نوازا

بِذَنْبِي فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا

اپنے گناہوں کا
پس بخش دے مجھے

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَيْدِ

بخشنے والا نہیں ہے
گناہوں کا

مُحْسَبِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

کافی ہے
مجھے اللہ کوئی معبود نہیں

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

اسی پر
مجرد سہ کرتا ہوں میں اور وہ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

عظمت والے
عرش کا

۷ بار

۷ بار

عظمت والے عرش کا

ط
ذرا باخواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استغفار
یہ ہے کہ تو ان الفاظ کو پڑھے
اللہم انت ربی لا اله الا انت
خلاق منی
اور میں تیرے عہد و پیمانہ پر ہوں
جو کچھ مجھ میں سے طاقت ہے
مجھ میں سے جو کچھ میں نے کیا
اس کے شر سے جو کچھ میں نے کیا
ان نعمتوں کا مجھے نوازا
اپنے گناہوں کا پس بخش دے مجھے
بخشنے والا نہیں ہے گناہوں کا
کافی ہے مجھے اللہ کوئی معبود نہیں
اسی پر مجرد سہ کرتا ہوں میں اور وہ
عظمت والے عرش کا

پچھلے ارعاشہ وہ تین کتاب ہے
شاد بن ادریس ۱۶۱ -
بخاری ۱۰۸۱۱
جلد اول - شمارہ ۲۲۱۱ - صفحہ ۳۹۲ - ۳۹۳

ط
نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ اپنے خوشخبری پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ لا اله الا هو علیہ
تو کلمت و هو رب
العالمین العظیمہ
ذوالجسدان والا کلام ذناور
اسے کیا تابت ہے
ابن السدوانی - ۱۱۸ -
صفحہ ۷۱۵



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمَ إِلَّا يَا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِيْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِي رَبِّي

ہر اس چیز پر جو میرے پروردگار نے مجھ کو عطا کی

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب ناموں سے بہتر ہیں

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالْ

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رب ہے زمین اور

السَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا

آسمان کا - اللہ تعالیٰ کے اس نام سے جس کی برکت سے کوئی

يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ بِسْمِ

بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی - اللہ تعالیٰ ہی کے نام

اللَّهُ افْتَتِحَتْ وَعَلَى اللَّهِ

کی برکت سے میں نے کھولا اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہیں نے

تَوَكَّلْتُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا

مجھ پر نہ کیا وہ اللہ ہی اللہ میرا پروردگار ہے - میں کسی چیز

أَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا أَسْأَلُكَ

کو اس کا شریک نہیں مقرر کرتا - اسے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے

اللَّهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ

تعالیٰ - بھلائیوں کا وہ بھلائی جو تیرے سوا اور کوئی

الَّذِي لَا يُعْطِيهِ غَيْرُكَ عَزَّ

زہی سے سکتا - تیری بناؤ قربت والی اور

جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا

تیری ثناؤں پر عظیم ہے اور کئی معبود نہیں

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اجْعَلْنِي فِي

سوائے تیرے مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 أَنْتَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

عِبَادِكَ وَجَوَارِكَ مِنْ كُلِّ

سُوءٍ ○ وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ رَايَ أَسْتَجِيرُكَ

مِنْ جَمِيعِ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ

وَاحْتَرَسَ بِكَ مِنْهُمْ ○ وَ

أَقْدَامَ بَيْنَ يَدَيَّ بِسْمِ

اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ وَقُلْ

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ○ اللَّهُ الصَّمَدُ ○

لَمْ يَلِدْ ○ وَلَمْ يُولَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ○

یہ دعا پڑھ چکنے کے بعد اوپر، نیچے، دائیں، بائیں اور

آگے پیچھے (ہرچھ سمت) کی طرف منہ کر کے سورہ اخلاص پڑھو!

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بعد نماز فجر عصر

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا

اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی مہبود نہیں

أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ

مجھ پر میرا بھروسہ ہے اور پروردگار ہے تو

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ

عرش عظیم کا جو چاہتا ہے ہو جاتا

وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لِأَحْوَالٍ

ہے اور جو تو نہیں چاہتا نہیں ہوتا نہیں قوت اور

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

میں طاقت مگر اللہ کے ساتھ جو بلند سے عظمت والا

أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

میرا یقین ہے کہ ہے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ

اور ہے شک اللہ عمل کے ساتھ ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔

عِلْمًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نفس

شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ

کے شر سے اور ہر زمین پر رہنے والے کے شر سے

أَنْتَ أَخَذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي

تو نے پکڑ رکھا ہے اس کی پیشانی کو بیشک میرا رب

عَلِيٌّ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

مرا یہ مستقیم پیر ہے

ابار

حضرت علی بن حبیب نے
 شیعہ حضرت ابوالدرداء سے کہا کہ ایک
 کے پاس آیا اور کہا کہ
 ابوالدرداء نے میرا کمر
 چلایا۔ انوں نے نہیں
 چلائے تھے۔ جب تک سر میں
 ان کلمات کو پڑھا تو اس
 کا جو میں نے حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم کے
 صلے میں لکھا ہے۔
 نے فرمایا۔ جو تمہیں شروع
 دن میں ان کلمات کو پڑھے
 اسے تمام کئی مصیبتیں
 نہیں پہنچیں گی۔ اور جو شخص
 آجروں میں پڑھے، اسے
 صحیح کئی کئی مصیبتیں
 نہیں پہنچیں گی۔ کلمات یہ ہیں
 اللہم أنت ربی لا إله إلا أنت
 علی بن ابی الدرداء نے فرمایا ہے (2)
 صفحہ ۱۶ شمارہ ۵

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنْهَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

رِزْقًا طَيِّبًا

ا بار رزقی جو پاکیزہ ہو

بعد فجر وعصر

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

اسے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری

مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ

غم و اندوہ سے اور پناہ لیتا ہوں میں

بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

تیرسی در ماندگی سے اور کاہلی سے

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ

اور پناہ لیتا ہوں میں تیری بچھیل سے

وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ

اور بزدلی سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیری

مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ

قرض کے زیر بار ہونے سے اور لوگوں

الرِّجَالِ

کے دباؤ سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ

اسے اللہ میں نے صبح کی

(عصراً) أَمْسَيْتُ أَشْهَدُكَ وَ

شام کی میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور

أَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ

گواہ بناتا ہوں میں تیرے عرش کے اٹھانے والوں کو اور

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 صبح و شام توبہ یہ دعا کر
 اللہ صحت و عافیت
 من الهمم والحزن
 اس پر عمل کیا اور دعا
 اور توفیق اور ارباب
 والحمد لله رب العالمین
 علیہ السلام
 صبح و شام
 صحت و عافیت
 ۱۰۸-۹

حضرت ابوسعید خدری سے
 میں نے ایک شخص سے جواب
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم میں بیمار ہوں
 انسان ہوں اور میں
 چھوڑ کر رہا ہوں۔ آپ
 توفیق داری ہیں فرمایا
 علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کہ میں شکر کو ایک ایسا دعا
 بتلاؤں تو صحت عافیت
 اور مبارک والا کام تیرے
 ذرا اجمال والا کام تیرے
 رنج و غم کو دور کرے
 اور تیرے قرض کو ادا کرے
 اس شخص نے عرض کیا یا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَبِينَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

مَلِكَتِكَ وَ جَمِيعِ خَلْقِكَ

يَا نَبِيَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ

وَأَسْأَلُكَ

اللَّهُمَّ رَجْرَجًا أَصْبَحْنَا

عِصْرًا أَمْسَيْنَا نَشْهَدُكَ وَ

نَشْهَدُ حَنَلَةَ عَرْشِكَ وَ

مَلِكَتِكَ وَ جَمِيعِ خَلْقِكَ

أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ط
 ز باجواب رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم نے کبھی نہیں ان
 حالات کو صبح کے وقت کبھی
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 شہدہ کے و نشہدہ
 حنلہ عرشہ کے و
 ملکیتہ کے و جمیعہ
 خلقہ کے الا انت وحدک
 لا الہ الا انت وحدک
 لا شریک لک وان
 محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم عبدک و
 رسولک -
 تو جس وقت صبح ہو
 و تعالیٰ عزوجل فرمادے
 و الاکرام اس سے وہ تمام
 دن میں ہوتے ہوں۔ اور

البرکات کی حالت کو شام کے وقت
 کہتے تو پختہ ہے اللہ تعالیٰ
 و تعالیٰ عزوجل فرمادے
 و الاکرام ان انما ہوں کو فرمات
 میں ایک ہوں۔
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 الوداد اور - تو ہی
 کہا یہ حدیث غریب ہے
 شمار ۲۲۶۱ - صفحہ
 ۲۰۳۰ -



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا رَبِّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ

شریک نہیں اس کا اس کا راج ہے اور کسی کی

الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

توہین ہے اور اس پر ہر چیز پر

قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

قدرت رکھتا ہے اسے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے

مِنْ خَيْرِ (فجر) هَذَا الْيَوْمِ وَ

بھلائی اس دن کی اور

خَيْرِ مَا فِيهِ وَ أَعُوذُ بِكَ

بھلائی ان چیزوں کی جو اس میں ہیں اور پناہ میں آتا ہوں تیری

مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيهِ

اس کی برائی سے اور ان چیزوں کی برائی سے جو اس میں ہیں

(عصر) هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ خَيْرِ

اس رات کی اور بھلائی

مَا فِيهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ

ان چیزوں کی جو اس میں ہیں اور پناہ میں آتا ہوں تیری اس کی

شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ

برائی سے اور ان چیزوں کی برائی سے جو اس میں ہیں اسے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

میں پناہ میں آتا ہوں تیری کالی سے

وَ الْهَرَمِ وَ سُوءِ الْكِبَرِ

اور بڑھاپے سے اور عمر رسیدگی کی تکلیف سے

وَ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ

اور دنیا کے فتنہ سے اور نیر کے عذاب

قرآن مجید کا
 ترتیب شریف ہے اس کے
 اور ایک روایت میں یہ
 الفاظ ہیں یہ
 ربِّ أَعُوذُ بِكَ
 مِنْ عَذَابِ فِي النَّاسِ
 مِنْ عَذَابِ فِي الْقَبْرِ
 وَعَذَابِ فِي الْمَقْبَرِ
 عبد اللہ بن مسعود روایت
 مسلم بن الحجاج شریف
 جلد اول شمارہ ۱۰ ص ۱۰۵
 ص ۱۰۵

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

القَبْرُ
 ا بار

ط (فجر) أَصْبَحْنَا وَآصَبْنَا

صبح کی ہم نے اور صبح کی

(عصر) أَمْسَيْنَا وَآمَسَى الْمَلِكُ

شام کی ہم نے اور شام کی

لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

اللَّهُ تَنَاهَا كَوْنُ شَرِيكَ لَهَا

لَهُ الْمَلِكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي

۱- ابن مسعود ۲- مسلم ۳- ابوداؤد ۴- ترمذی ۵- نسائی ۶- ابن ابی شیبہ ۷- یحییٰ بن سعید ۸- صحیحہ ۹- ۱۰-

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا مُجِيبُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَ أَعُوذُ

اور بھلائی جو اس کے بعد ہیں اور تیری پناہ میں

بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ

آتا ہوں ان چیزوں کی بڑائی سے جو اس رات میں

اللَّيْلَةِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهَا

ہیں اور بڑائی سے جو اس کے بعد ہیں

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

اسے بڑے پروردگار پناہ لیتا ہوں میں تیری سستی سے

وَ سُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ

اور عمر رسیدگی کی تکلیف سے اسے بڑے پروردگار پناہ لیتا ہوں میں

بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ

تیری دوزخ سے عذاب سے

وَ عَذَابِ فِي الْقَبْرِ

اور قبر کے عذاب سے

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ

پاک ہے اللہ اور تمہاری تعریف ہے

وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ

اور نسیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ہر سے جو چاہتا ہے

اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ

اللہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں

يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى

ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ

چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ یقیناً اللہ نے

ص
 خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 سے کہ بعض عیبوں سے
 روایت ہے کہ خواب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ
 تکلیف فرماتے تھے کہ جس
 وقت صبح ہو تو تیرے پروردگار
 سبحان اللہ و بحمدہ
 ولا قوتہ الا باللہ
 ما شاء اللہ کان
 ما شاء اللہ علی
 اعلم ان اللہ علی
 شیء قدير و ان اللہ
 قد احاط بكل شیء علما
 اس لیے کہ جو شخص ان کلمات

کو صبح کے وقت کہتا ہے
 نام تک پر ملا ہے محفوظ
 رہتا ہے اور جو غرض نام نہاں کو کہتا
 ہے صبح تک محفوظ رہتا
 بعض دختران رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم - البوادع ج ۲
 مشکاوت شریف جلد اول -
 شمارہ ۶ - ۲۲۶ - صفحہ ۱۰۰

رَبَّنَا
 تَقَاتِلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ السَّالِمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدْوِكُمْ مَعْلُومِكُمْ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

قَدْ أَخَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اِبَار
 گھیر رکھا ہے ہر چیز کو (اپنے) علم سے
 فَسُبْحَانَ اللَّهِ حَمِين
 بھر یا لڑکی بیان کرو اللہ کی جب
 نَسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ
 تم شام کرو اور جب تم صبح کرو
 وَكَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
 اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ
 اور زمین میں اور سہ پہر کے وقت اور جب
 تَظْهَرُونَ ○ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
 تم دوپہر کرو نکالتا ہے وہ جاندار کو
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
 بے جان سے اور نکالتا ہے وہ بے جان کو
 الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ
 جاندار سے اور سرسبزی بخشتا ہے وہ زمین کو بعد اس کے
 مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ○ اِبَار
 خشک ہو جانے کے اور اسی طرح (مرنے کے بعد زمین سے) تم بھی نکالے جاؤ گے
 اللَّهُمَّ (مُجْر) مَا أَصْبَحَ
 اے اللہ جو بھی صبح کے وقت
 (عصر) مَا أَمْسَىٰ رَبِّي مِنْ نِعْمَةٍ
 جو بھی شام کے وقت مجھے حاصل ہوئی نعمت
 أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ
 یا کسی شخص کو میری مخلوق میں سے ہے اس سے وہ تیرے

علا
 فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت ان کلمات کو کہے گا اللہ صبح کے وقت اس کو حیات بخشنے سے شکر کرے گا اور آدھار اور جس کے نام کے وقت ان کلمات کو کہے گا اس نے ان نعمات کا شکر ادا کر دیا۔
 عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما -
 عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما -
 صفحہ ۲۰۵ - شمارہ ۲۲۸ -

صل
 فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہے گا اللہ صبح کے وقت اس کو حیات بخشنے سے شکر کرے گا اور آدھار اور جس کے نام کے وقت ان کلمات کو کہے گا اس نے ان نعمات کا شکر ادا کر دیا۔
 عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما -
 عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما -
 صفحہ ۲۰۵ - شمارہ ۲۲۸ -

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِزَّتِهِ
 يَدِدُ كُلَّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ دُخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَكَ

ایکے ہی کی طرف سے تھی کوئی شریک نہیں ہے میرا پس تیرے ہی لیے ہے

الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ اَبَار

تعلیق اور تیرے ہی لیے ہے شکر۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے

الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ

عافیت دنیا میں اور

الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

آخرت میں اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے

الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي

معافی اور عافیت اپنے دین

وَ دُنْيَايَ وَ أَهْلِي وَ مَالِي

اور دنیا کی اور اپنے اہل اور مال کی

اللَّهُمَّ اسْرُ عَوْدَاتِي وَ

اے اللہ پروردہ پونہی فرما میری برہنوں کی اور

أَمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي

امن عطا فرما مجھے خوف دہراس میں اے اللہ حفاظت فرما میری

مِنْ أَيْدِي مَنْ خَلَقَنِي

میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے

وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي

اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے

وَ مِنْ فَوْقِي وَ أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ

اور میرے اوپر سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیری عظمت کی

اسئلک العافية
 في الدنيا والآخرة
 ابو بكر صبر روم
 ابو داود ۳۶۱۰
 مشکوٰۃ مشرف
 جلد اول شمارہ
 ۲۲۴۱ - صفحہ
 ۸۰۳ -

حضرت ابن عمر
 کہتے ہیں کہ جناب
 رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم روزانہ
 ان کلمات کو پڑھتے
 و شام کو پڑھتے
 اور کبھی تا نوتر
 کرتے تھے۔
 المصحف فی

رَبَّنَا
 تَقَاتِلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

اِنَّ اُعْتَالَ مِنْ تَحْتِي اِبَار	اچانک ہلاک کر دیا جاؤں میں جیسے سے۔ یعنی زمین میں دھنسا دیا جاؤں
دَجْرًا اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ	ہم نے صبح کی اور صبح کی
(عصر) اَمْسَيْنَا وَ اَمْسَى الْمَلِكُ	ہم نے شام کی اور شام کی سارے ملک نے
اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اِنِّي	صاحبی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اے اللہ میں
اَسْأَلُكَ خَيْرَ (فجر) هَذَا الْيَوْمِ	ماگھت ہوں تجھ سے بھلائی اس دن کی
فَتْحَهُ وَ نَصْرَهُ وَ نِعْوَاهُ	اس دن (دن) میں ہونے والی فتحی اور مدد اور اس کا نور
وَ بَرَكَتَهُ وَ هُدَاهُ وَ اَعُوذُ	اور اس کی برکات اور اس کی ہدایت اور پناہ لینا میں
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَ شَرِّ	تیری ان چیزوں کے شر کے پہلو سے جو اس دن میں ہیں اور ان
مَا بَعْدَهُ (عصر) هَذِهِ اللَّيْلَةَ	چیزوں کے شر کے بعد ہیں۔ اس رات کی
فَتْحَهَا وَ نَصْرَهَا وَ نِعْوَاهَا	اور اس کی فتحی اور اس کی مدد اور اس کا نور
وَ بَرَكَتِهَا وَ هُدَاهَا وَ اَعُوذُ	اور اس کی برکات اور اس کی ہدایت اور تیری پناہ میں
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَ شَرِّ	آتا ہوں اس برائی سے جو اس میں ہے اور برائی

هدایہ واعوذ بک
 من شر ما فیہ وشر
 ما بعدہ۔ اور اسی طرح شام کہئے۔
 اوبیادک۔ ابو داؤد اور
 مشکوٰۃ وشریفات جلد اول، شمارہ
 ۱۲۸۵ - صفحہ ۲۰۶۔

ط
 قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 اس وقت میں سے جو صبح کیجے
 اس وقت میں سے جو عصر کیجے
 اس وقت میں سے جو شام کیجے
 اس وقت میں سے جو رات کیجے
 اس وقت میں سے جو صبح کیجے
 اس وقت میں سے جو عصر کیجے
 اس وقت میں سے جو شام کیجے
 اس وقت میں سے جو رات کیجے

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
 آمِنِ آمِنِ آمِنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْسَ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَحْدِيُّ الْقَيُّومُ وَأَنْتَ إِلَهُ الْوَحْدِيِّ

الْفَرْدُ لَا يَنْدُ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ

یگانہ ہے کوئی مد مقابل نہیں تیرا ہر چیز سے

هَارِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ لَنْ تَطَاعَ

ہلاک ہو جائے والہ ہے مگر تیری ذات تیری طاعت نہیں کی جا سکتی

إِلَّا بِإِذْنِكَ وَ لَنْ تَعْصِيَ إِلَّا

مگر تیرے حکم سے اور تیری نافرمانی نہیں کی جا سکتی مگر

بِعَلْمِكَ تَطَاعُ فَتَشْكُرُ وَ

تیرے علم کے ساتھ۔ تیری طاعت کی جاتی ہے تو تو قبول کرتا ہے

تَعْصِي فَتَغْفِرُ أَقْرَبُ شَهِيدٍ

اور تیری نافرمانی کی جائے تو بخش دیا ہے تو، تو بہت ہی قریب موجود ہے۔

وَ أَدْنَى حَفِيزٍ حَلَّتْ دُونَ

اور تو نزدیک ترین محافظ ہے جو حاضر ہے تو اس کے

النَّفُوسِ وَ أَخَذَتْ بِالنَّوَاصِي

دلوں کے اور پکڑ رکھا ہے تو نے چوٹیوں سے

وَ كَتَبَتْ الْأَثَارَ وَ نَسَّحَتْ

اور لکھ دیا ہے تو نے لوگوں کے عملوں کو اور لکھ دی ہیں

الْأَجَالَ وَ الْقُلُوبَ لَكَ

عمریں اور قلوب تیرے لیے

مَفْضِيهِ وَ السِّرُّ عِنْدَكَ

کشف وہ ہیں اور راز درون تیرے ہاں

عَلَانِيَهُ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّتْ

اگر ظاہر ہے۔ حلال وہ ہے جس کو تو نے حلال رکھا

وَ الْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ وَ

اور حرام وہ ہے جس کو تو نے حرام قرار دیا اور

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَبِينَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِترته
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِيْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

الدِّينُ مَا شَرَعْتَ وَ الْأَمْرُ

دین وہ ہے جس کو تو نے مقرر کیا اور حکم وہ ہے

مَا قَضَيْتَ وَ الْخَلْقُ خَلَقْتَ

جس کا تو نے فیصلہ کیا اور مخلوق تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے

وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ وَ أَنْتَ اللَّهُ

اور بندہ تیرا ہی بندہ ہے اور تو سرور

الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ اسْأَلُكَ

بہت مہربان نہایت رحم والا مانگتا ہوں میں تجھ سے

بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ

تیری ذات کے نور کے واسطے سے جس سے روشن ہوئے

لَهُ السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ

آسمان اور زمین اور

بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَ بِحَقِّ

ہر اس حق کے واسطے سے جو تجھے پہنچتا ہے اور سوال کرنے والوں کے

السَّائِلِينَ عَلَيْكَ أَنْ تَقِيْلَنِي

اس حق کے قیبل جو تجھ پر ہے یہ کہ تو درگزر فرمائے مجھ سے

فِي هَذِهِ الْغَدَاوَةِ أَوْ فِي هَذِهِ

اس بیچ میں یا اس نام

الْعَشِيَّةِ وَ أَنْ تُجَيِّرَنِي مِنَ

میں اور یہ کہ پناہ دلوں سے تو مجھے

النَّارِ بِقُدْرَتِكَ اِبَار

دوزخ سے اپنے قدرت کے ذریعے۔

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا وَجْهَ اسْتَعْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

مَنْ شَرَّمَا خَلَقَ وَذَرَاءَ وَمِنْ

جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا اور پھیلا یا اس کے شر سے اور

شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهِ ۳ بار

شیطان اور اس کے شرک کے شر سے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے وہ واحد ہے اس

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی

الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ

کے لئے قریب ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ (مخوف)

حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

زندہ ہے اس کے لئے موت نہیں اور وہ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱ بار

مستور ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں وہ ایسا ہے

لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی حکومت ہے

وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَ

اسی کے لئے سب قریب ہیں وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور

ع
 حضرت ابی ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ... اے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق تقاضے اور دنیا اور آخرت کے برے سببوں سے محفوظ رہے اور اس معاف کر دیتے ہیں اور اس سے دور رہے بلکہ کر دیتے ہیں اور ان کلمات کا تواب دینے کے غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے اور اس سے شروع دن سے آخر تک اور اس سے پہلے کہ کوئی کلمہ نہیں کہتا اور اگر ان کلمات کو شکر ہے وقت کرتے۔ تو تباہی تو اب وقت ہے۔
 کنز العمال جلد اول صفحہ ۲۵۸

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ... اے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق تقاضے اور دنیا اور آخرت کے برے سببوں سے محفوظ رہے اور اس معاف کر دیتے ہیں اور اس سے دور رہے بلکہ کر دیتے ہیں اور ان کلمات کا تواب دینے کے غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے اور اس سے شروع دن سے آخر تک اور اس سے پہلے کہ کوئی کلمہ نہیں کہتا اور اگر ان کلمات کو شکر ہے وقت کرتے۔ تو تباہی تو اب وقت ہے۔
 کنز العمال جلد اول صفحہ ۲۵۸



صفحہ ۱۸ شمارہ ۲۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَوَدَّادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا مَنْ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بعد فجر

أَصْبَحْنَا وَأَصْحَكَ الْمَلِكُ

ہم نے صبح کی اور سارے ملک نے اللہ ہی کے لئے

بِاللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْكَرْبَاءُ

صبح کی اور تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور بڑائی

وَالْعِظْمَةُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

اور بزرگی اللہ ہی کے لئے ہے اور پیدا کرنا اور حکم دینا

وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ

اور رات اور دن اور جہ جہ میں سکون پزیر ہیں

فِيهِمَا لِلَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ

ان میں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اسے اللہ بنا دے اس دن کے اول

هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ

حصے کو سیکھ اور اس کے درمیانی حصے کو

زَجَاحًا وَآخِرَهُ فَلَاحًا يَا

کامیابی اور اس کے آخری حصے کو نجات دے

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۱ بار

تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے!

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ

حاضر ہوں میں اسے اللہ حاضر ہوں حاضر ہوں

وَسَعْدَايِكَ وَالْخَيْرُ رَفِي

اور تیری خدمت لذاری کی سعادت کا آرزو مند ہوں اور بھلائی

بَدَايِكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ

ترسے یا تمہیں ہے اور تیرے صواب سے پناہ ترسے ہی وہی رحمت میں لگتی ہے

ط
 حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر
 نے یہ دعا کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم صبح کے وقت یہ دعا
 پڑھتے۔ اصبحتہ الملك لله الخ
 عبدالرحمن بن ابی بکر
 مستحضر
 ترمذی نے یہ دعا اول شمار
 فرمائی۔ مستحضر ۲۰۶ -
 لودی نے اسے اب الاذکار

ط
 زبیر بن ثابت ر.ف۔
 ابن عباس ر.ف۔
 اسعد ر.ف۔
 حضرت حسن ص.ف۔
 ۱۱۲ -

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَالِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ مَا قُلْتَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ

اسے اللہ میں نے جو بات ہی

حَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ أَوْ نَذَرْتُ

میں نے جو کبھی حلف اٹھا یا جو کبھی

مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيتُكَ بَيْنَ

میں نے نذر مانگی پس تیری مشیت ان سب

يَدَيَّ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا شِئْتَ

کے سامنے سب کچھ تو نے چاہا

كَانَ وَ مَا لَمْ تَشَأْ لَا يَكُونُ

ہوا اور جو کچھ تو نہ چاہے نہیں ہوتا

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

اور کوئی تدبیر اور نہ کوئی طاقت لاکر ہو سکتی ہے مگر تیری مدد سے

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تو ہے سب کچھ پر قدرت رکھتا ہے۔

اللَّهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ

اسے اللہ میں نے جو کچھ دعا و رحمت کی

فَعَلِي مِنْ صَلَاتٍ وَمَا لَعَنْتُ

اسی کے لیے کی جس پر تو نے رحمت نازل کی اور میں نے جس پر لعنہ بھیجی

مِنْ لَعْنٍ فَعَلِي مِنْ لَعْنَةٍ

جیسی آئی پر جیسی جس پر تو نے لعنت کی

أَنْتَ وَبِي فِي الدُّنْيَا وَ

تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور

الْآخِرَةِ مَيِّتٌ مُسْلِمًا وَ

آخرت میں موت دینا مجھے اسلام کی حالت میں، اور

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

الْحَفِيظِي بِالصَّالِحِينَ ابار

شامل کر دے مجھے نیک بندوں میں

لَهُ اللَّهُمَّ رَانِي أَسْأَلُكَ

اسے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے

الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ

تسکیم و رضا کی توفیق تیرے فیصلوں پر اور پُر آسائش

الْحَيِّ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَّةَ

زندگی موت کے بعد اور لذت

النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَشَوْقًا

دیدار تیرے رخِ زیبا کی اور آسائش شوق

إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ

تیرے وصل کی جو حاصل ہو بغیر کسی

مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ

مضر رساں سمجھی اور بغیر کسی گمراہ کن کے

وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ

اور پناہ لیتا ہوں تیری اس بات سے کہ میں ظلم کروں یا

أُظْلَمَ أَوْ أَعْتَدَى أَوْ يُعْتَدَى

مجھ پر ظلم کیا جائے اور اس بات سے کہ میں زیادتی کروں یا زیادتی کی جائے

عَلَى أَوْ أَكْتَسَبَ خَطِيئَةً أَوْ

مجھ پر یا یہ کہ کروں میں کوئی ایسی خطا یا

ذَنْبًا لَا تَغْفِرُهُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ

ایس گناہ جس کو تو نہ بخشے - اسے اللہ! پیدا کرنے والے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ

آسمانوں اور زمین کے جاننے والے

الرضاء بعد القضاء الخ
 زیادتیوں کی نجات دہنہ -
 عالم پر - آسائش -
 اور آسائش - حصص یہ تصدین صغیر
 ۱۲۴ - ۱۲۵

علیہ السلام
 زیارت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 ثابت رہے اور ارشاد فرمایا کہ
 ہمیشہ پڑھنے یا کرے
 اللہ عزوجل اس مسئلے

وَبِنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُمَّ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتَ اسْتَغْفِرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ذَا الْجَلَالِ

پوشیدہ اور حاضر کے بزدلی

وَ الْاِكْرَامِ فَانِيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ

اور عزت والے! میں عہد کرتا ہوں تیرے ساتھ

فِيْ هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ

اس دنیا کی زندگی میں اور

اُسْهَدُكَ وَ كَفَى رِيْكَ شَهِيدًا

میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں اور کافی ہے تیری گواہی

رَانِيْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ

میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو

وَ حَدَّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ

تہنہا کوئی شریک نہیں ہے تیرا میرا ہی

اَلْمُلْكُ وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ اَنْتَ

راج ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تو

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ اَشْهَدُ

ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں

اَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ

وَ سَلَّمَ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ

وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں

وَ اَشْهَدُ اَنْ وَعْدَكَ حَقٌّ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے

وَ لِقَاءَكَ حَقٌّ وَ السَّاعَةَ

اور تیری ملاقات کا ہونا سچ ہے اور قیامت

وَتَنَا
 تَقَاتَلْنَا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
 اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتْهُ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

اَتِيَهُ لَا رَبَّ فِيهَا وَ اَنْتَ

آئے کی کوئی شک نہیں ہے اس میں اور یہ کہ

تَبَعْتُ مَنْ رَفِيَ الْقُبُورِ وَ

تو زندہ کر کے اٹھائے گا میں کو جو قبروں میں ہیں اور

اَنْتَ اِنْ تَكَلَّمْتُ اِلَى نَفْسِي

یہ کہ اگر تو پیرد کر دے گا مجھ سے نفس کے

تَكَلَّمْتُ اِلَى ضَعْفٍ وَ عَوْرَةٍ

تو پیرد کرے گا تو مجھے کمزوری اور برہنہ کی (بھیجانے) کے

وَ ذَنْبٍ وَ خَطِيئَةٍ وَ اِنِّي

اور گناہ اور خطا کے اور میں

لَا اَتَّقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ

نہیں بخور دس کرتا ہوں مگر تیری رحمت پر

فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا اِنَّهُ

بخش دے میرے تمام گناہوں کو بے شک

لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ

نہیں بخش سکتا ہے کوئی گناہوں کو سوائے تیرے

وَ تَبَّ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ

اور میری تو بہ قبول فرما بے شک تو ہی تو بہ قبول کرنے والا

الرَّحِيمُ

رحم کرنے والا ہے۔

ا بار

اَمْسَيْنَا وَ اَمْسَى الْمَلِكُ

ہم نے شام کی اور سارے ملک نے اللہ ہی کے لیے



سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِیْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَرْمَنِیِّ وَعَلِیْ اَوْلِیِّهِ وَاصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لِّكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضٰی نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 بِالْحَقِّ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

اَللّٰهُمَّ اَتِنَا فِي الدُّنْيَا

اسے اللہ عطا کر ہمیں دنیا میں

حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

بھلائی اور آخرت میں بھلائی

وَوَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اَبَار

اور بچاؤ ہم کو آگ کے عذاب سے

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوْبَنَا

اسے ہمارے پروردگار! نہ گھرونا ہمارے دلوں کو

بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا

بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہے ہم کو اور عطا کر ہمیں

مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ

خاص اپنی طرف سے رحمت بلاشبہ

اَنْتَ الْوَهَّابُ اَبَار

تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔

رَبِّ اَعِنِّيْ عَلٰی ذِكْرِكَ

پر سے رب! مدد کر میری اپنے ذکر

وَشُكْرِكَ وَحَسِّنْ عِبَادَتِكَ اَبَار

اور شکر اور اپنی ایسے طریقے سے عبادت کرنے پر۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ

اسے اللہ! میں پناہ پتا ہوں تیری

مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَ

کفر سے اور محتاجی سے اور

عَذَابِ الْقَبْرِ اَبَار

قبر کے عذاب سے

رب اعنی علی ذکرک
 و شکرک و حسن
 عبادتک۔

مادریں چل رہی ہیں۔
 ابو داؤد درم سن ۱۰۳۰۔
 مشکوٰۃ شریف ج ۱ ص ۱۸۹۔
 شمارہ ۸۷۹۔

حضرت سیدنا علیؑ کی یاد میں
 لکھے ہیں کہ نبوت والا آدم پر
 عرش نماز کے بعد کہا کرتے تھے
 من اللھم انی اعوذ بک
 عذاب الکفر و الفقر و
 عذاب القبر۔ میں بھی ان
 نے پڑھا ہے کہ پناہ پتا ہوں تیری
 سے کفر سے اور محتاجی سے اور
 قبر کے عذاب سے۔

ایسے آدمیوں کی حالت کو پروردگار
 عطا فرمادے اور ان کی حالت
 بدلا کر دے۔
 سیدنا ابی بکرؓ کی روایت میں ہے کہ
 نبی کریمؐ نے فرمایا کہ تم میں سے
 کوئی شخص نماز کے بعد کہے کہ
 اے اللہ! میں نے تیرے رسولؐ کی
 خدمت میں نماز کی ہے اور تیرے
 رسولؐ کی خدمت میں نماز کی ہے۔

رَبَّنَا
 قَبَّلْنَا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
 اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دعا کرتے
 تھے۔
 اے اللہ! میں نے تیرے رسولؐ کی
 خدمت میں نماز کی ہے اور تیرے
 رسولؐ کی خدمت میں نماز کی ہے۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے
 فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دعا کرتے
 تھے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ
 عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے
 تھے۔
 اے اللہ! میں نے تیرے رسولؐ کی
 خدمت میں نماز کی ہے اور تیرے
 رسولؐ کی خدمت میں نماز کی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بَعْدَهُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدُ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ

اسے اللہ کفایت کر میری حلال روزی کے ساتھ

عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ

حرام سے بچا کر اور بے نیاز کرنے مجھے اپنے فضل سے

عَمَّنْ سِوَاكَ ○ ا بار

اپنے سوا دوسروں سے

يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ

اسے دلوں کے بدلنے والے! جماد سے

قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ○ ا بار

میرے دل کو اپنے دین پر

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ

میرے رب! پناہ لینا ہوں میں تیری شیطانتوں

هَمْزَاتِ الشَّيْطَانِ ○ وَأَعُوذُ

کے و سوسوں سے اور پناہ لینا ہوں میں

بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ○ ا بار

تیری اسے میرے رب! اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ

اسے میرے پروردگار! بخش لے (مجھے) اور رحم فرما اور

أَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ○ وَلَا

تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے اور کوئی

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

جسدا اور مدد میرا اگر نہیں ہو سکتی مگر اللہ کی مدد سے

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○ ا بار

عظیم و بزرگ عظمت والا ہے۔

ہوئے تھے تو اس سے زیادہ
 کوئی دعا مانگا کرتے تھے۔
 حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے
 یا مقلب القلوب ثبت
 قلبی علی دینک۔
 حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں
 میں نے کبھی نہ سنا کہ کوئی
 دعا مانگا کرتے تھے
 جیسا کہ اللہ نے ان کو
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 سے زیادہ
 اسے اللہ کی رحمتوں کا
 وسیلہ بنا لیا۔
 اس کی رحمتوں سے
 دو
 اور ان کی رحمتوں سے
 حضرت معاذ بن جبل
 فرماتے ہیں کہ میں نے
 اس دعا کو سنا ہے
 اور میں نے اس سے
 بہت فائدہ پایا۔
 یہ دعا اللہ کی رحمتوں
 کا وسیلہ ہے۔
 اس دعا کو سنا ہے
 اور میں نے اس سے
 بہت فائدہ پایا۔
 یہ دعا اللہ کی رحمتوں
 کا وسیلہ ہے۔

حضرت ام المومنین
 علی زینب رضی اللہ عنہا نے
 اس دعا کو سنا ہے
 اور میں نے اس سے
 بہت فائدہ پایا۔
 یہ دعا اللہ کی رحمتوں
 کا وسیلہ ہے۔
 اس دعا کو سنا ہے
 اور میں نے اس سے
 بہت فائدہ پایا۔
 یہ دعا اللہ کی رحمتوں
 کا وسیلہ ہے۔
 اس دعا کو سنا ہے
 اور میں نے اس سے
 بہت فائدہ پایا۔
 یہ دعا اللہ کی رحمتوں
 کا وسیلہ ہے۔
 اس دعا کو سنا ہے
 اور میں نے اس سے
 بہت فائدہ پایا۔
 یہ دعا اللہ کی رحمتوں
 کا وسیلہ ہے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بَعْدَهُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدُ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بَعْدَهُ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدُ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِيْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ

اے اللہ! برکت دے مجھے موت میں

وَفِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ۵ بار

اور اسی چیزوں میں جو موت کے بعد ہیں۔

اللَّهُمَّ رَانِي أَعُوذُ بِكَ

اے اللہ! میں پناہ لیتا ہوں تیری

مِنَ الْجُبْنَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ

بزدلی سے اور میں پناہ لیتا ہوں تیری

الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ

بخل سے اور میں پناہ لیتا ہوں تیری

ارْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ

ناکارہ عمر سے اور میں پناہ لیتا ہوں تیری

مِنَ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ

دنیا کے فتنہ اور عذاب

الْقَبْرِ ۱ بار

عذاب سے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

کوئی معبود نہیں مگر اللہ تنہا

لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

کوئی شریک نہیں اس کا اسی کے ہے بادشاہی

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

اور ہر شے کی تعریف اور وہ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

توہرت رکھتا ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ

زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ان باتوں کو کہے اسے اللہ تعالیٰ جو چاہے عذاب الیم سے نجات دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجات پائے گا۔
 (ردہ یا سچ کہے ہیں)
 لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له کم الاہ۔
 امریاء ونبیاء ان فی البیور واللاطیظ حصین ص ۱۰۱

حضرت سید محمد تقی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اسے یاد رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے نجات پائے گا۔
 حضرت سید محمد تقی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اسے یاد رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے نجات پائے گا۔
 حضرت سید محمد تقی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اسے یاد رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے نجات پائے گا۔
 حضرت سید محمد تقی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اسے یاد رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے نجات پائے گا۔

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین آمین یا رَبَّ الْعَالَمِین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِیْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَرْحَمِ وَعَلِیْ اَوْلِیِّهِ وَاصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَبِعَدَمِ خَلْقِكَ وَرِضٰی نَفْسِكَ وَزِنَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 بِاِحْسَانٍ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ ۝

مَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا اَبَار

تیری طرف سے بخشش اور خوشنودی

رَبِّ قِنِيْ عَذَابِكَ يَوْمَ

میرے پروردگار! بچالینا مجھے اپنے عذاب سے جس دن

تَبَعْتُ عِبَادَكَ اَبَار

کر تو اٹھائے گا اپنے بندوں کو

رَبِّ قِنِيْ عَذَابِكَ يَوْمَ

پروردگار! بچالینا مجھے اپنے عذاب سے جس دن

تَجْمَعُ عِبَادَكَ اَبَار

اکٹھا کرے گا تو اپنے بندوں کو

اَللّٰهُمَّ رَبِّ جَبْرِئِلَ وَ

اے اللہ! پروردگار جبرائیل اور

مِیْكَائِیْلَ وَ اِسْرَافِیْلَ اَعِزَّنِيْ

میکائیل اور اسرافیل کے بچالے مجھے

مِنْ حَرِّ النَّارِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ اَبَار

دوزخ کی گرمی سے اور قبر کے عذاب سے

اَللّٰهُمَّ اَعْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ

اے اللہ! بخش دے میرے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیے

وَمَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ

اور جو میں نے بعد میں کیے اور جو گناہ چھپ کر کیے

وَمَا اَعْلَنْتُ وَ مَا اَسْرَفْتُ

اور جو سامنے کیے اور جو مجھ سے اسرار ہوا

وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ

اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔

عظمت اللہ علیہ وسلم نے لفظ
 تَبَعْتُ عِبَادَكَ تو ہوا
 یا تَجْمَعُ عِبَادَكَ تو ہوا۔

عظمت
 عالیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فی الاصل حضرت جبرائیل اور میکائیل

عظمت
 عالیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 راؤ دہم سے اسرار ہوا۔ تہذیب
 ابن حبان ۳۰۰ - تہذیب
 ۲۳۳ - ۲۳۴

عظمت اللہ علیہ وسلم نے لفظ
 تَبَعْتُ عِبَادَكَ تو ہوا
 یا تَجْمَعُ عِبَادَكَ تو ہوا۔
 حضرت جبرائیل اور میکائیل
 راؤ دہم سے اسرار ہوا۔ تہذیب
 ابن حبان ۳۰۰ - تہذیب
 ۲۳۳ - ۲۳۴

رَبَّنَا
 تَقَاتِلْ لَنَا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
 اٰمِنِ اٰمِنِ اٰمِنِ يَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ وِخْلِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَلِيْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخَّرُ

تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے ڈال دینے والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ا

کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ

اے اللہ ہمارے رب اور ہر چیز کے رب

شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ الرَّبُّ

میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی رب ہے

وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ

تو واحد ہے تیرا کوئی شریک نہیں اے اللہ!

رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا

ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار میں

شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَ نَبِيَّكَ وَأَنَّكَ رَسُوْلُكَ

علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ

اے اللہ! ہمارے رب! اور ہر چیز کے رب

أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ

میں گواہی دیتا ہوں کہ بندے تمام کے تمام

رَاخُوْتُهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبِّ

بھائی بھائی ہیں اے اللہ ہمارے رب اور ہر چیز کے

كُلِّ شَيْءٍ رِنَا جَعَلْنِي مُخْلِصًا

رب ہمارے بچھے مخلص

ط زید بن ارقم رم - سن ۶۷ - الجرد اؤد ۲
 ابن سنی ۶۷ - صحیحین صفحہ ۳۱ - ۲۳۰ -

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتَ اسْتَغْفِرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْوَحْدِيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

لَكَ وَ أَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ

اینا اور میرے اہل کو ہر گھنٹی میں

فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ذَا الْجَلَالِ

دنیا میں اور آخرت میں اسے بزرگی

وَ الْاِكْرَامِ رَاسِمَةً وَ اسْتَجِبْ

اور عزت والے سب سے بھیجے اور قبول فرمائے

اللَّهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ

اللہ بہت بڑا بہت ہی بڑا ہے کافی ہے مجھے اللہ

وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ اَبَا

اور بہتر ہے وہ کارساز اللہ اللہ بہت بڑا ہے بہت ہی بڑا ہے

اللَّهُمَّ اَصْلِحْ لِي دِينِي

اے اللہ! میرا دین سنوار دے جس کو

الَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةً اَمْرِي

تو نے میرے ہر کام کی پابندی (حفاظت) کا ذریعہ بنایا ہے

وَ اَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي

اور درست کر دے میرے لیے میری دنیا کو جس میں

جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اَللَّهُمَّ

تو نے بنایا ہے میرا معاش اے اللہ!

رَانِي اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ

میں پناہ لیتا ہوں تیری رضا کی تیری

سَخَطِكَ وَ اَعُوذُ بِعَفْوِكَ

ناراضگی سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیرے دہن عفو میں

مِنْ ثَقَبَتِكَ وَ اَعُوذُ بِكَ

تیرے انتقام سے اور پناہ لیتا ہوں میں تیرے

ط.م.س.م. حارث رزم - کتاب فی ۴۱ - ابن حبان ۲۳۲ - ۳



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَدَّتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْلَىٰ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

مَنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ

داہن رحمت میں تیرے عذاب سے کوئی روکنے والا نہیں ہے اس چیز کا جس کو تو عطا کرے

وَلَا مُعْطَىٰ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا

اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو تو روک لے اور کوئی

رَادٌّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ

مصل نہیں سکتا اس کو جس کا تو فیصلہ کر دے اور نہیں بچا سکتا

ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ اِبَار

کسی اجداد مند کو تیری گرفت سے اس کی اجداد مندی۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئِي وَ

اے اللہ! میری دانستہ اور نادانستہ (سب)

عَمْدِي اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِصَالِحِ

خطا میں بھٹی دے اے اللہ راہنما کی گری میری صالح

الْأَعْمَالِ وَالْإِحْلَاقِ لَا يَهْدِي

اعمال اور احسنی کی طرف کیونکہ کوئی راہنما نہیں

لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئِهَا

کرتا صالح اعمال کی طرف اور کوئی بُرا نہیں سکتا بد اعمال سے

إِلَّا أَنْتَ اِبَار

سوائے تیرے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

اے اللہ! میں پناہ لیتا ہوں تیری

مِنَ عَذَابِ النَّارِ وَ عَذَابِ

دوزخ کے عذاب سے اور تیرے

الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

عذاب سے اور زندگی کے فتنے

۱۔ اربع سو و پندرہ - ۱۲۲۷ - ۲ - صحیحین صفحہ ۲ - ۱۲۲۷ - ۲

۲۔ اربع سو و پندرہ - ۱۲۲۷ - ۲ - صحیحین صفحہ ۲ - ۱۲۲۷ - ۲

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ

اور موت (کے نطفے سے) اور مسیح (دجال کے

الدَّجَالِ

شر سے) ا بار

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَا وَ

اے اللہ! بخش دے میری خطا کو اور

ذُنُوبِي كُلِّهَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

میرے تمام گناہوں کو اے اللہ! میرا رنجہ بلند کر

وَ اجْنِبْنِي وَ اجْبُرْنِي وَ ارْزُقْنِي

اور مجھے زندگی عطا کر اور میری کمی پوری کر اور مجھے رزق دے

وَ اهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَ

اور مجھے براہ دکھا اچھے اعمال اور

الْاِحْتِلَاقِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا

احتملاق کی بلاشبہ کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا صالح اعمال کی طرف

وَ لَا يَصْرِفُ سَيِّئِهَا إِلَّا

اور کوئی برائی نہیں سکتا بداعمال سے سوائے

أَنْتَ

تیرے) ا بار

اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي

اے اللہ! درست کر دے میرے لیے دین کو

وَ وَسِّعْ لِي دَارِي وَ بَارِكْ

اور کشادہ کر دے میرے لیے گھر کو اور برکت عطا فرما

لِي فِي رِزْقِي

مجھے میرے رزق میں) ا بار

۱۔ ابنی محبوب دوم - وافی ناصر - اجماعی - حاکم دوم - طبرانی سوم - ابن سنی دوم - صحیح ترمذی صحیفہ
 ۱۸۱۱ - ۱۸۱۲

۲۔ ابنی محبوب دوم - طبرانی دوم - ابن ماجہ سوم - صحیح مسلم صحیفہ
 ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَرِزْقَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا كَرِيمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ

بِاللَّهِ هیں ماگتا ہوں تجھ سے اس حق

السَّائِلِينَ عَلَيْكَ فَإِنِّ

کے ذریعہ سے جو سائلوں کو تجھ پر حاصل ہے کیونکہ

لِلسَّائِلِ عَلَيْكَ حَقًّا آيْمًا

سائلوں کا تجھ پر حق ہے کہ جو سنا ظلم

عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنْ أَهْلِ

یا لونڈی یا تیری

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلَتْ

دلوں میں سے کہ قبول کی ہو تو نے

دَعْوَتَهُمْ وَأَسْجَبْتَ دَعَاءَ

دعا ان کی اور مستجاب الدعوات کیا ہو

هُمْ أَنْ تَشْرِكَنِي فِي صَالِحِ

انہیں یہ کہ شریک کر دے تو ہمیں ان اچھی

مَا بَدَعُونَكَ فِيهِ وَأَنْ

دعاؤں میں کہ مانگیں وہ تجھ سے اور یہ کہ شریک کر دے

تَشْرِكَهُمْ فِي صَالِحِ مَا نَدَعُوكَ

تو ان کو ان اچھی دعاؤں میں کہ مانگیں ہم تجھ سے

(فِيهِ) وَأَنْ تُعَافِيَنَا وَإِيَّاهُمْ

اور عافیت دے تو ہمیں اور ان کو

وَأَنْ تُقْبَلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ وَأَنْ

اور یہ کہ قبول کرے تو ہم سے اور ان سے اور یہ کہ

تَجَاوَزَ عَنَّا وَعَنْهُمْ فَإِنَّا

درگزر کرے ہم سے اور ان سے کیونکہ ہم

۱۔ حضرت ابوسعید خدری رضی
 اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے
 اس کی دعا قبول ہوگی اور
 اس کی دعا مانگیں وہ تجھ سے
 اور یہ کہ شریک کر دے تو ہمیں
 ان اچھی دعاؤں میں کہ مانگیں
 ہم تجھ سے اور ان کو اور عافیت
 دے تو ہمیں اور ان کو اور یہ
 کہ قبول کرے تو ہم سے اور ان
 سے اور یہ کہ درگزر کرے ہم
 سے اور ان سے کیونکہ ہم

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

اللَّهُمَّ اتِّ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ

يا الله (دس حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مقام وسیلہ

وَأَجْعَلْ فِي الْمُسْطَفِينَ مَحَبَّتَهُ

اور کر دے ہرگز پرہ لوگوں میں محبت آپ

وَرَفِي الْعَالِينَ دَرَجَتَهُ وَ

کی اور عالی مرتبہ لوگوں میں درجہ آپ کا اور

فِي الْمُقَرَّبِينَ ذِكْرَهُ اِبَار

مقربین میں ذکر آپ کا

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ

يا الله تجھی کو سزا دار سے تریف اور

إِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَبِكَ

تجھی سے لائق ہے شکایت اور تجھی سے

الْمُسْتَعَانَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ

چاہیے زیاد اور تو ہی ہے لائق مدد کرنے کے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

اور نہیں ہے بجز تمہ سے اور نہ قوت عبادت کی تمہ

بِاللَّهِ اِبَار

ساتھ اللہ کے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ بِمَا

اے اللہ میں تجھ کو شہد بہاتا ہوں جس کی

پہنچنے کے اللہ
 انی اشہدک
 کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۱۹۵ شمارہ ۱۹۷۶

حضرت عبدالمطلبین رسول
 سے روایت ہے کہ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی فرمایا
 کہ کیا میں نے بھی زکات
 زکوٰۃ اور حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی اس امر میں
 ہوتے ہیں تمہ کو چھوڑنے
 سے لڑائی کیا۔ یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فرمود
 کہ میں نے فرمایا
 اللہم للہ العلی۔ الخ

جمع الزوائد صفحہ ۱۸۳
 عن حضرت عبدالمطلبین
 رسول

حضرت ابی امامہ سے روایت
 ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو
 کوئی اس فرقہ نماز سے
 بے خبر ہے
 اللہم ات محمدنا
 الوسیلہ
 تو واجب ہوتی ہے
 اسکی شفاعت تیار ہے
 کے دن اور واجب
 ہوگی اس کے لئے جنت

عمل ایوم واللیلہ
 شمارہ ۱۳۲ صفحہ ۲۶
 ابن سنی



حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے
 فارغ ہوئے کے بعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِزَّتِهِ
 بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَرِزْنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَوْ أَنَّ اسْتَغْفِرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

شَهِدْتُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ وَ شَهِدْتُ

تو نے شہادت دی اپنے نفس پر اور جس کی شہادت دی

بِهِ مَلَائِكَتِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ وَأُولُو

تیرے سب فرشتوں اور تیرے نبیوں (پیغمبروں) اور ان کے علم

الْعِلْمِ وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِمَا شَهِدْتُ

نے اور جس نے اس بات کی شہادت نہ دی جس کی کرتے

بِهِ فَأَكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ

دی ہے تو اس کی شہادت کے بدلہ بھی میری شہادت لکھ لے

أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ

تیرا نام السلام ہے اور سلامتی تیری طرف سے آتی ہے تو بڑی برکت

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ إِنِّي

دالا ہے اسے ذوالجلال والاکرام اسے اللہ میں تجھ سے

أَسْأَلُكَ فَكَأَنَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ أَبَار

سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ میری گردن دوزخ سے آزاد کر دے

لَهُ اللَّهُمَّ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ

اسے اللہ: تو نے اپنا نور تمام کیا پس تو نے ہدایت دی پس

فَلَكَ الْحَمْدُ وَعَظَمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ

تیرے ہی لئے حمد ہے اور عظیم ہے تیرا حلم تو نے سمان کیا

فَلَكَ الْحَمْدُ وَ بَسَطْتَ يَدَكَ

پس تیرے لئے تعریف ہے اور پھیلا دیا تو نے اپنا ہاتھ

فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَجْهَكَ

پس عطا کیا پس تیرے ہی لئے تعریف ہے اسے ہمارے رب تیرا چہرہ

حضرت امام ابن ماجہ سے
 مروی ہے کہ حضرت
 علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ
 فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے
 اللہم تشر نورک الخ
 شمار صفحہ ۲۹۵
 شمار ۲۹۶

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اَكْرَمُ الْوُجُوهِ وَجَاهُكَ خَيْرُ الْجَاهِ

سب چہروں سے عزت والا ہے اور تیرا مرتبہ سب مرتبوں

وَعَطِيَّتِكَ اَنْفَعُ الْعَطَايَا وَاهْنَاهَا

سے بہتر ہے اور تیری عطیہ سب عطیوں سے بڑھ کر نفع دینے والی

تَطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرْ وَتَعْصِي رَبَّنَا

اور خوشگوار ہے اسے ہمارے رب تیری اطاعت کی جاتی ہے تو تڑپوں کرتا ہے

فَتَغْفِرُ الذَّنْبَ وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ

اور لے ہمارے رب تیری نافرمانی کی جاتی ہے تو تو گنہ بخش دیتا ہے۔ اور توبہ

وَتَكْشِفُ الضَّرْرَ وَلَا يَجْزِيُ الْاَثَمُكَ

جول فرماتا اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور تیری نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے

اَحَدٌ وَلَا يَحْصِي نِعْمَاءَكَ

سکتا اور نہ تیری نعمتوں کا شمار کوئی بیان کرنے والا

قَوْلٌ قَائِلٌ

ابار بیان کر سکتا ہے

لَهُ اللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا عَدَدَ الشَّفْعِ

اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہی والا ہے جفت اور طاق کے

وَالْوَتْرِ وَكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّمَاتِ

عدد اور اللہ کے کامل اور پاکیزہ

الطَّيِّبَاتِ الْمُبَارَكَاتِ

مبارک کلمات

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

حضرت عبدالعزیز بن عمر رضی اللہ
 عنہ سے روایت ہے کہ اگر
 فرمایا جاوے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کبھی جو کچھ
 ہر نماز کے بعد اور بہتر
 سونے کے وقت ہے
 اللہ اکبر کہیو
 تین بار اور لا الہ الا
 اللہ اس کی مثل تو کسی
 قسمی اور بظاہر اور پور نور
 ہوگا۔ یہاں تک کہ جنت میں
 داخل ہو جائے گا۔

ترجمہ اصلاح خلد اول
 صفحہ ۲۵۸ شمارہ ۳۹۷



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَمِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدِ خَلْقِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتَ اسْتَغْفِرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا

دن پورا کیا جائے ہے شک تو دعدہ غلانی

تُخْلِفُ أَمِيْعًا

ابار کر نے والا نہیں

لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے

عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں

عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

آگ کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں

الْفِتَنِ بَاطِنَهَا وَظَاهِرَهَا أَعُوذُ بِكَ

باطن اور ظاہر کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا

مِنَ الْأَعْوَرِ الْكَذَّابِ

ابار ہوں مجھوں کے سبب لگانے سے

بعد نماز فجر

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حُسْنِ

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تم کی اچھائی

الْمَسَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى

پہر اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں

حُسْنِ الصَّبَاحِ

ابار صبح کی حمدیہ پر

حضرت ابن عباس رضی اللہ
 عنہما سے روایت ہے کہ
 حضرت آدم صلی اللہ
 علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے
 تھے نماز کے بعد ان
 اللہم انی اعوذ بک
 من العیب

کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۱۲
 شمارہ ۳۹۸۸

عجے
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 سے روایت ہے کہ حضور
 انور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جو شخص صبح کے
 وقت الحمد لله على حسن
 المساء... اور اللہ
 سے توبہ کرے اس نے
 اس رات اور دن کا شکر
 ادا کر دیا۔

کنز العمال جلد اول
 صفحہ ۲۹۴
 شمارہ ۳۹۶۳



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبَعْدَ دُخْلِكَ وَرَضَى نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ
 يَا لَيْتَ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

بعد نماز فجر وعصر

سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ سُبْحَانَ

پاک ہے وہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہے پاک ہے وہ جو

الْوَّاحِدِ الْأَحَدِ سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدِ

واحد ہے احد ہے پاک ہے وہ جو الہا ہے ہے

سُبْحَانَ مَنْ رَفَعَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ

نیاز ہے۔ پاک ہے وہ ذات۔ کہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان

سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ

بلند کیا۔ پاک ہے وہ ذات۔ جس نے مہر پانی پر زمین کو بچھ

جَمَدٍ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ

دیا۔ پاک ہے وہ ذات، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔

فَأَحْصَاهُمْ عَدَدًا سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ

پھر اس کو شمار میں رکھ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے

الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ أَحَدًا سُبْحَانَ

رزق تقسیم فرمایا۔ اور کسی ایک کو بھی نہیں بھولا۔ پاک ہے وہ

الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا

ذات۔ جس نے نہ بیوی اختیار کی اور نہ اس کا

وَلَدًا سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ

کوئی بیٹا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نہ جنا اور

وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

نہ وہ جنا کیا اور نہ ہی کوئی اس کا

كُفْوًا أَحَدًا

ابار

احمد عسکری ہیں۔
 تیس سے عذاب سے قیامت
 کے دن تیس تیس سال کی
 طرح عذاب پائے ہیں۔ تو
 اللہ کی رحمت سے قیامت
 زبانی۔ جو شخص صبح اور
 شام کے بعد اسے
 سبحان الالہی
 وہ میرے عذاب سے
 نجات پائے گا۔
 تادمی شامی صریح
 صفحہ ۲۰۷
 علیہ السلام

حضرت امام غزالی
 رحمان بن ثابتؓ کی
 کا عذاب میں بارگاہی قیامت کی
 دعوت کا مشہور فقرہ ماضی
 انجم الغیبی نے کہا ہے
 کہ وہ ماضی انجم نے فرمایا
 میں نے رب الفوق فوقنا و
 مرتب عذاب میں رکھا۔ تو
 کہ اگر آئندہ قیامت
 کوئی اور جس سے کوئی
 جائے گی تو سوال کروں گا۔
 کہ اسے بارگاہی قیامت ہے
 غنونات تیس سے پائنتی ہے
 کس عذاب پائنتی ہے
 غنات کے دن۔ فرمایا
 قیامت نے اللہ سبحانہ
 کہ جو میں نے اللہ سبحانہ
 تقاضے کو فرمایا میں دیکھا
 تو میں نے عرض کیا۔ اسے
 چودہ گار اجتر کا پانچ وقت
 دانی ہے۔ اور تیسری شام
 بزرگ دانی ہے۔ اور تیسری

رَبَّنَا
 تَقَاتَلْنَا مِنْكَ
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
 اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِیْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَمْرِی وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَعِزَّتِهِ
 بِعَدْوَلٍ مَّعْلُوْمٍ لَّكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضٰی نَفْسِكَ وَزِیْنَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ
 بِیَوْمِیْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

بعد نماز فجر وعصر

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَكَفَرْتُ

ایمان لایا میں اللہ عظمت داسے پر اور کفر کیا میں

بِالْحُبِّ وَالطَّاعُوْتِ وَاَسْتَمْسِكُوْ

نے بڑوں اور شیطان کے ساتھ اور پکڑ لیا میں نے

بِالْعُرُوْتِ الْوَثْقٰی لَا الْفِصَامَ لَهَا

مضبوط دستے (قرآن) کو جو ٹوٹنے والا نہیں اور

وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

لَهُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ مِلْءُ الْمِیْزٰنِ

پاک ہے اللہ میزان بھر اور

وَمُنْتَهٰی الْعِلْمِ وَمَبْلَغِ الرِّضٰی

علم کی انتہا کے برابر اور رضامندی کو پہنچنا

وَزِیْنَةَ الْعَرْشِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا

عرش کے وزن کے برابر اور نہیں کوئی مبود سوائے

اللّٰهُ مِلْءُ الْمِیْزٰنِ وَمُنْتَهٰی

اللہ تقاضے کے میزان بھر اور علم کی انتہا

الْعِلْمِ وَمَبْلَغِ الرِّضٰی وَزِیْنَةَ

علم کے برابر اور رضامندی کو پہنچنا عرش کے

الْعَرْشِ وَاللّٰهُ الْكَبْرُ مِلْءُ الْمِیْزٰنِ

وزن کے برابر اور اللہ بھرت بڑا ہے میزان بھر

وَمُنْتَهٰی الْعِلْمِ وَمَبْلَغِ الرِّضٰی

اور علم کی انتہا کے برابر اور رضامندی کو پہنچنا

اور حضرت زینہ بنت جحش سے
 ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر
 پھر اس دعا کو پڑھ کر
 صبح و شام کیا کرے گا
 کہ اس میں جو چیزیں
 ہیں وہ سب اس کے ہاتھ
 آئیں گے۔ (مشکوٰۃ ص ۱۰۰)
 (اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ
 یہ دعا ایسی ہے کہ جس میں
 جو چیزیں بھی ہیں وہ سب
 آپ کے ہاتھ آئیں گی۔)
 ۱۳۵۰ھ

حضرت علیؓ کی حدیث ہے کہ
 اس دعا کو پڑھ کر
 جو چیزیں بھی ہیں وہ سب
 آپ کے ہاتھ آئیں گی۔
 (مشکوٰۃ ص ۱۰۰)
 (اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ
 یہ دعا ایسی ہے کہ جس میں
 جو چیزیں بھی ہیں وہ سب
 آپ کے ہاتھ آئیں گی۔)
 ۱۳۵۰ھ

حضرت زینہ بنت جحش سے
 ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر
 پھر اس دعا کو پڑھ کر
 صبح و شام کیا کرے گا
 کہ اس میں جو چیزیں
 ہیں وہ سب اس کے ہاتھ
 آئیں گے۔ (مشکوٰۃ ص ۱۰۰)
 (اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ
 یہ دعا ایسی ہے کہ جس میں
 جو چیزیں بھی ہیں وہ سب
 آپ کے ہاتھ آئیں گی۔)
 ۱۳۵۰ھ



سبحان اللہ صبح و شام
 ۳۹۴
 شمارہ ۳۹۴

دعا پڑھ کر
 صبح و شام
 ۳۹۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِیْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَمْرِی وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَتْرَدِهِ
 بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَبَعْدِ دُخْلِكَ وَرِضٰی نَفْسِكَ وَرِزْنَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

حصہ دوم

الدُّعَاةُ اَبَعْدَ الصَّلَاةِ الْخَمْسَةِ (پانچوں وقت کی نماز کے بعد کی دعائیں)

صفحہ	عنوان مطالب	نمبر شمار
۳۷۱	الدعوات - دعا کے مضامین اور آداب	۴۹۶
۳۷۲	بعد نماز پڑھی جانے والی دعائیں	۴۹۷
۳۷۶	بعد نماز مغرب و فجر " " "	۴۹۸
۳۷۸	بعد نماز فجر (مقالید السموات والارض)	۴۹۹
۳۸۳	بعد نماز فجر و عصر پڑھی جانے والی دعائیں	۵۰۰
۳۸۶	سبعات عشر کی فضیلت اور پڑھنے کا طریقہ	۵۰۱
۳۸۸	بعد فجر و عصر سبعات عشر	۵۰۲
۳۹۰	بعد نماز پڑھی جانے والی دعائیں	۵۰۳
"	بعد فجر و عصر و نماز " " "	۵۰۴
۳۹۱	" " " سورة بقرہ آخری دو آیات	۵۰۶
۳۹۳	بعد نماز فجر و عصر پڑھی جانے والی دعائیں	۵۰۷
۳۹۴	" " " بعد نماز	۵۰۸
۳۹۵	" " " بعد نماز فجر	۵۰۹
۳۹۷	" " " بعد نماز	۵۱۰
۳۹۹	" " " صلوة شریف	۵۱۱

رَبَّنَا
 تَقَاتِلْ مِنَّا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
 اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ یٰرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ
 بِعَدْوِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَ مَدَادِ كَلِمَاتِكَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

صفحہ	عنوان و مطالب	نمبر شمار
۴۰۳	بعد فجر و عصر پڑھی جانے والی دعائیں	۵۱۲
۴۰۸	بعد فجر و عصر (سید الاستغفار)	۵۱۳
۴۰۹	دعائے کثیر البرکت	۵۱۴
۴۱۱	دیگر	۵۱۵
۴۱۶	بعد نماز فجر و عصر پڑھی جانے والی دعائیں	۵۱۶
۴۱۸	" " " "	۵۱۸
۴۱۹	بعد نماز فجر	۵۱۹
"	" " " "	۵۲۰
"	" " " "	۵۲۱
۴۲۰	" " " "	۵۲۲
۴۳۶	" " " "	۵۲۳
۴۴۰	" " " "	۵۲۴
۴۴۱	" " " "	۵۲۵
"	" " " "	۵۲۶
۴۴۲	بعد ہر نماز	۵۲۷
۴۶۱	بعد نماز فجر	۵۲۸
۴۶۲	" " " "	۵۲۹
۴۶۳	پڑھی جانے والی دعائیں	بعد نماز فجر و عصر
۴۶۴		بعد ہر نماز

رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ